

سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 کے ردعمل میں صحت و حفاظت کے لیے اضافی اقدامات اٹھا رہا ہے

صوبائی ہدایات کے بعد، سٹی بحالی کے ترمیم شدہ درجہ 2 میں داخل ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (9 اکتوبر 2020) – صوبے کی جانب سے آج کے اعلان کے بعد اور پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کی روشنی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں کمی لانے میں مدد فراہم کرنے پر سٹی آف برامپٹن بحالی کے ترمیم شدہ درجہ 2 میں داخل ہو رہا ہے۔

بروز ہفتہ مورخہ 10 اکتوبر 2020 کو دن 12 بج کر 01 منٹ پر صحت اور حفاظت کے مندرجہ ذیل اقدامات کم سے کم 28 دن تک جاری رہیں گے اور ان کا باقاعدگی سے جاری بنیادوں پر جائزہ بھی لیا جاتا رہے گا:

ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار

بروز ہفتہ مورخہ 10 اکتوبر 2020 کو دن 12 بج کر 01 منٹ پر لاگو ہونے کے بعد، کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار بشمول فوڈ کورٹس کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں کمی لانے کے لیے گاہکوں کو اندر بٹھا کر کھانا پیش کرنے کی سہولت بند کر دیں گے۔ جبکہ پیک کر کے دینے اور بیرونی جگہوں پر بٹھا کر کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے کی اجازت ہو گی۔

اگرچہ بہت سے ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی خدمات فراہم کرنے والے دیگر اداروں نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیل کے رہائشیوں کی حفاظت کے لیے اپنے کاروباروں کی جانب سے بہتری کے ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے، بصورت دیگر پیل میں موجود کوئی بھی کاروباری ادارہ اگر صوبہ یا پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہیلتھ پروٹیکشن اینڈ پرموشن ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی سروسز فراہم کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان سے کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھروں میں منگوا کر یا ساتھ لے جا کر کھائیں۔

اضافی بندشیں

بروز ہفتہ مورخہ 10 اکتوبر 2020 کو دن 12 بج کر 01 منٹ پر لاگو ہونے کے بعد، درج ذیل بندشوں پر عمل ہو گا:

- ان ڈور جیمز اینڈ فٹنیس سنٹرز (یعنی ایکسٹریٹس کلاسز اور وزن میں کمی اور ایکسٹریٹس کے مقامات) بشمول سٹی کی تفریحی سہولت گاہوں میں موجود فٹنیس کے مراکز
- پرفارمنگ آرٹ سنٹرز اور اس طرح کے دیگر مراکز، بشمول سٹی کی سہولت گاہوں
- کیسینو، بنگو ہالز اور اس طرح کے دیگر مراکز
- تمام ان ڈور سینیماز
- دوڑ کے مقامات پر تماشائیوں کی نشستیں
- عجائب گھروں، گیلریوں، چڑیا گھروں، سائنسی مراکز، لینڈ مارکس وغیرہ میں منعقد ہونے والی ذاتی رابطے کے بلند خطرے کی حامل تعاملی یا دیگر نمائشیں۔

گنجائش کی حد میں کمی

بروز ہفتہ مورخہ 10 اکتوبر 2020 کو دن 12 بج کر 01 منٹ پر لاگو ہونے کے بعد، گنجائش کی درج ذیل حدود لاگو ہوں گی:

- ڈور اور گائیڈ سروسز کو ان ڈور میں 10 افراد جبکہ آؤٹ ڈور میں 25 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے
- ریئل اسٹیٹ کے اوپن ہاؤسز کو ان ڈور میں 10 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے
- بالمشافہ طور پر کوچنگ و تربیت وغیرہ کے پروگراموں کو ان ڈور میں 10 افراد تک جبکہ آؤٹ ڈور میں 25 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے، مگر اس میں اسکول، چائلڈ کیئر سنٹرز، یونیورسٹیاں، کالج آف اپلانڈ آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی اور پرائیویٹ کیریئر کالجز شامل نہیں ہیں
- میٹنگ اور تقریبات کے مقامات کو ان ڈور میں 10 افراد جبکہ آؤٹ ڈور میں 25 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے
- ٹیم اسپورٹس کو صرف تربیتی نشستوں تک محدود کر دیا گیا ہے (گیم یا مقابلے منعقد نہیں ہوں گے)
- اس ویکینڈ کے لیے پہلے سے شیڈول کردہ شادی کی تقریبات کو پبلک ہیلتھ کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بروز منگل مورخہ 13 اکتوبر 2020 کو دن 12 بج کر 01 منٹ پر مؤثر ہونے کے بعد، شادی کی تقریبات میں



پبلک ہیلتھ کی تجدید شدہ ہدایات پر لازمی عمل درآمد ہو گا، بشمول تقریبات کی جگہوں پر ان ڈور میں 10 لوگوں جبکہ اوٹ ڈور مقامات پر 25 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہو گی۔

سماجی اجتماعات میں اکٹھا ہونے کی حد اور جسمانی فاصلہ بندی

برامپٹن اور پورے پیل ریجن میں منعقد ہونے والے تمام سماجی اجتماعات اور باضابطہ عوامی تقریبات میں ان ڈور میں 10 لوگوں جبکہ اوٹ ڈور مقامات پر 25 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہو گی تاکہ جسمانی فاصلہ بندی پر عمل درآمد کیا جا سکے۔

کووڈ-19 کے خطرے میں کمی لانے کے لیے، پبلک ہیلتھ کی جانب سے سفارش کی جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط میں کمی لائی جائے اور چھوٹے اجتماعات منعقد کیے جائیں اور اس کے علاوہ سماجی دائرے کو اپنے اہل خانہ اور ضروری نگہداشت کنندگان تک محدود رکھا جائے۔ اس مرتبہ تھینکس گونگ ویک اینڈ کے موقع پر بھی پبلک ہیلتھ کی جانب سے تقریبات کو اپنے خاندان کے قریبی لوگوں تک ہی محدود رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔

جو لوگ اکیلے رہتے ہوں یا اپنے گھرانے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ میں آنا چاہتے ہوں، پبلک ہیلتھ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی تقریبات کو مختصر رکھیں، تقریبات کا وقت کم کر دیں، جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ اگر طبیعت خراب ہو، تو ذاتی طور پر جمع ہونے کی بجائے آن لائن طور پر اکٹھے ہوں، اپنا ٹیسٹ کرائیں اور گھر پر انسولیٹ ہو جائیں۔

برامپٹن کووڈ-19 ایمرجینسی ہائی لاء کے مطابق آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خلاف ورزی کی صورت میں کم از کم \$500 اور زیادہ سے زیادہ \$100,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔

اس ضمنی قانون میں درج ذیل میونسپل قواعد شامل ہیں:

- عوامی املاک پر ہر شخص پر وقت دوسرے لوگوں سے کم از کم 2.0 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھے، ماسوائے ان افراد کے جو ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہائش پذیر ہوں۔
- کسی بھی کاروباری ادارے کو اپنے کاروباری احاطے کے اندر یا باہر کسی بھی شخص کو دوسرے شخص سے کم از کم 2.0 میٹر سے کم فاصلے پر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ماسوائے ان لوگوں کے جو کسی مشترکہ جگہ پر اکٹھے رہائش پذیر ہوں یا ان کے اپنے ملازمین ہوں۔

رہائشی اور کاروباری ادارے 311 پر کال کر کے خلاف ورزی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔

چہرے کو لازمی ڈھانپنا

مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کا استعمال لازمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔

ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثنیٰ بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ یا ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/masks

رہائشی اور کاروباری ادارے 311 پر کال کر کے خلاف ورزی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔

کووڈ-19 کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ کروانے کے مقامات کے بارے میں معلومات

ٹیسٹ کروانے کے خواہشمند افراد پورے پیل میں موجود مختلف مقامات بشمول فارمیسیوں اور اسپیسمنٹ سنٹرز سے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ بروز منگل، 6 اکتوبر کے بعد تمام اسپیسمنٹ سنٹرز اور منتخب شدہ فارمیسیوں سے ٹیسٹ کروانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہو گی۔ اپنا ٹیسٹ بُک کرانے کے لیے اسپیسمنٹ سنٹر یا فارمیسی سے رابطہ کریں۔

پیل اور برامپٹن میں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے والے مقامات کی فہرست کے لیے، صوبے کی [ویب سائٹ](http://www.ontario.ca) ملاحظہ کریں۔

برامپٹن میں ولیمز اوسلر ہیلتھ سسٹم (Osler) ٹیسٹنگ

ساؤتھ فلپچرز کے سپورٹس پلکس میں اوسلرز کووڈ-19 ٹیسٹنگ سنٹر
اوسلر اب کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانے کے ہر اہل شخص کے لیے آن لائن اور بذریعہ فون بکنگ کی سہولت پیش کر رہا ہے۔ ساؤتھ فلپچرز
سپورٹ پلکس میں اوسلر کے کووڈ-19 ٹیسٹنگ سنٹرز روزانہ صبح 8 تا شام 6 بجے تک کھلے ہوتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹس دستیابی کی
بنیاد پر بک کی جائیں گی۔

اوسلر کے کووڈ-19 ٹیسٹنگ سنٹر پر ایک ٹیسٹ بک کرانے کے لیے، نیچے دیے گئے آپشنز میں سے ایک کو منتخب کریں۔

• آن لائن: ملاحظہ کریں www.williamoslerhs.ca/coronavirus

• فون: کال کریں 905.487.1249

صبح 8:00 تا شام 6:00 بجے تک، ہفتے کے 7 دن۔

براہ کرم نوٹ کریں: اوسلر نے موقع پر جا کر اپوائنٹمنٹ بک کرانے کی سہولت بند کر دی ہے۔

انتیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کے لیے پیل میموریل سنٹر میں اوسلر کے کووڈ-19، کولڈ اینڈ فلو کلینک

اوسلر کا کووڈ-19 کولڈ اینڈ فلو کلینک ان مریضوں کو دیکھنا جاری رکھے گا جو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے معیار پر پورا اترتے ہوں اور
اس کے علاوہ ان مریضوں کو بھی جن میں علامات پائی جاتی ہوں اور وہ موقع پر تشریف لا کر ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہوں۔

ساؤتھ فلپچرز سپورٹ پلکس میں برامپٹن کے ٹیسٹنگ سنٹر اور پیل میموریل سنٹر کے کووڈ-19، کولڈ اور فلو کلینک کے بارے میں مزید

معلومات کے لیے ملاحظہ کریں www.williamoslerhs.ca/coronavirus

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca